

صحت مندل کے لیے ضروری غذا

مریضوں والی خانہ کے لیے بدایات



ڈیپارٹمنٹ آف نیوٹریشن اینڈ فود سروس



آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی
The Aga Khan University Hospital, Karachi



دل ہمارے جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ ہمارے حالیہ کم ورزش کے حامل طرز زندگی نے ڈھنی دباؤ، جب کہ کھانے پینے کی غیر محتاط عادات نے دل کی بیماریوں کے خطرے میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج دنیا میں دل کی شریانوں کی بیماری (Coronary Heart Disease) موت کا ایک نمایاں سبب ہے۔

صحت بخش غذا کیوں کھانی چاہیے؟

صحت بخش غذا آپ کے دل میں بیماری کے خطرے کو کم کرتی ہے، اور اگر آپ پہلے ہی سے دل کی بیماری میں بستلا ہیں، تو اس طرز عمل سے مزید پچیدگیوں سے بچا جاسکتا ہے۔ ایک صحت مند طرز زندگی دل کی بیماریوں، بلند فشار خون اور موٹاپے سے بچنے میں معاون ہو سکتا ہے۔ کھانے کا نیا طریقہ ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بے مزہ یا اکتا ہٹ اگئیز ثابت ہو۔ صحت مندرہنے کے لیے غذا کا انتخاب آپ کے کھانوں میں مزید رنگوں، مصالحوں اور اقسام کا اضافہ کر سکتا ہے۔

اگر آپ متناسب وزن کے حامل نہیں تو اپنے معانع سے پوچھیں کہ آیا آپ کو کسی ماہر غذا سے رجوع کریں سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

میں اپنی غذا کس طرح تبدیل کر سکتا ہوں؟

- چربی اور گوشت کم استعمال کریں اور ہمیشہ گوشت میں وال یا سبزی شامل کریں۔
- نمک کا استعمال کم کریں۔
- زیادہ ریشوں اور سبز نویت کی غذا استعمال کریں مثلاً سبزیاں، پھل
- بغیر چھٹے ہوئے آٹے کی روٹی یا دلیہ کھائیں۔
- چینی کم استعمال کریں۔
- تمباکو اور شراب نوشی سے پرہیز کریں۔

چربی کم استعمال کریں

ایسی کوئی غذا نہیں جس میں چربی کے مقابلے میں کیلور یز کی زیادہ مقدار موجود ہو۔ ہمارے کھانے میں نصف سے زائد کیلور یز چربی سے آتی ہیں۔ کھانے میں کیلور یز کی مقدار کم کرنے کے لیے آپ کو لازمی طور پر چربی کا استعمال کم کرنا ہوگا۔ چربی میں کھانا پکانے سے غذا میں موجود کیلور یز میں دو سے تین گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً 6 انوں ابلے ہوئے آلوؤں میں 150 جب کہ تلے ہوئے چیس میں 435 کیلور یز ہوتی ہیں۔ اسی طرح ابلے ہوئے انڈوؤں میں 80 جب کہ تلے ہوؤں میں 130 کیلور یز ہوتی ہیں۔

استعمال نہ کریں	استعمال کریں
چکنائی والا دودھ	چکنائی کے بغیر یا یا چکنائی والا دودھ
مکھن اور مارجرین	کم چکنائی والا مکھن (Spread) ڈبل روٹی وغیرہ پر لگا کر۔
بالائی، ماپونیز، سلاڈرینگ اور ڈپس	سادہ یا کم چکنائی والا روٹی، کاٹھ پنیر
چیس، فرنچ فرایز، بچنے ہوئے آلو	کچلے اور ابلے ہوئے آلو، پاشا
سرخ گوشت، اور بڑا حصہ گائے اور دنبے کا گوشت کا بڑا حصہ دل، گردہ، کلنجی، مغز، پائے	کم مقدار میں سفید گوشت جیسے مرغی، مچھلی یا بکرے کا گوشت
تلی ہوئی غذا نہیں ناریل	6-5 دانے بادام یا خروٹ یا 10 دانے موگ چلی (تمک میں بھتے ہوئے نہ ہوں) بھاپ زدہ، ابی ہوئی، شوربے والی، سکلی ہوئی یا مانگرو ویواوون میں پکی ہوئی غذا استعمال کریں۔

سوڈیم (نمک) کا استعمال کم کریں

ہم میں سے اکثر لوگ جسم کی ضرورت سے زائد سوڈیم (نمک) کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر میں اضافہ اور سانس لینے میں مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال نصف کر دیں۔

استعمال نہ کریں	استعمال کریں
نمک اوپر سے چھڑک کر	کم نمک کھانا پاکتے وقت
خشک میوہ اور کاری اشیاء چیپس اور نمکوں	بغیر نمک لے خشک میوے
پیسا ہوا (Processed) گوشت یا گوشت سے بنی مصنوعات جیسے Nuggets, Sausages	پتلا گوشت اور سبز یوں سے بننے کھانے
نمک لگے ہوئے پاپڑ	مکمل طور پر گندم سے بننے کم نمک یا بنا نمک پاپڑ
عام نیبر	کم پکنائی والا نیبر اور کانٹج چیز (ڈبل روٹی وغیرہ پر) لگا کر

ریشوں کا زیادہ استعمال کریں

پھلوں، سبز یوں اور انواع سے ریشوں کا استعمال آپ کے دل کی بیماریوں میں بنتا ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جو پھل آپ چھلکے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اُن کا استعمال زیادہ کریں۔ اس طرح آپ کو پھر گناہ زیادہ ریشہ ملے گا۔

استعمال نہ کریں	استعمال کریں
سفید روٹی	بھروسی والی گندم کی روٹی
کارن فلیکس	ویٹا بکس، بران فلیکس، دلیہ
چل جیسے کیلا، سیب اور ناش پاتی (چھلکے سیت) یا 1 کپ پیتا	چل جیسے کیلا، سیب اور ناش پاتی (چھلکے سیت) یا 1 کپ پیتا
تلی ہوئی اور زیادہ پکی ہوئی سبز یاں	سلام، سبز یاں، والیں، مٹر، لوبیا وغیرہ
سفید چاول اور پاسٹا	براون چاول اور بھروسی والی گندم کا پاسٹا

چینی کم کھائیں

میٹھے سے بنی مصنوعات محض وزن بڑھاتی ہیں اور ان سے بھوک کم نہیں ہوتی۔

استعمال نہ کریں	استعمال کریں
اسکواش اور عام سوڈا والے مشروبات	سبز چائے، لکی یا یامبوں پانی
چائے یا کافی اور دیگر مشروبات میں چینی کا استعمال وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔	بغیر چینی کے چائے اور کافی
خاص چپلوں کی بنی مصنوعات اور کم چینی والے جام	جام، مارملیٹ، شہدا اور سیرپ
مٹھائیاں، چاکلیٹ، کیک اور سکٹ	تازہ پھل اور کم چکنائی والا دہی
جیلی، سیل بند اور پیکیوں والی چپلوں کی پڈنگ	بغیر چینی کے جیلی اور کم چینی والی چپلوں کی پڈنگ

آپ اپنے دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ آپ کی غذا ہے۔

یاد رکھیں:

- اپنے کھانوں میں ایسی غذا میں شامل کریں جن میں Monosaturated چکنائی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جیسے زیتون، کنو لا آنکل اور سمندری غذا مثلاً چھلی
- کم کثیف چکنائی والی غذا استعمال کریں، بطور خاص چانوروں سے حاصل کی گئی چربی اور پام اور کھوپرے کے تیل وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔
- پودوں اور سمندری غذا سے بنی Poly Saturated چربی والی غذا استعمال کریں
مثلاً سورج کھی کا تیل اور مکنی کا تیل



- نمک اور سوڈیم کے انتبار سے متوازن غذا کا انتخاب کریں۔
- مجموعی طور پر کلیوریز کا استعمال کم کر دیں۔
- ریشہ زیادہ استعمال کریں۔
- اپنے کھانوں میں تنوع رکھیں۔
- سبز یا اور پھل زیادہ مقدار میں کھائیں۔
- اگر آپ تمبا کو یا پان بیس، وائن اور دیگر الکوحل آمیز مشروبات استعمال کرتے ہیں تو ان سے پرہیز کریں۔

ہپتال میں قیام کے دوران فراہم کی جانے والی خصوصی خوارک مریض کی پیاری کو منظر کر تیار کی جاتی ہے اور اس دوران کھانا باہر سے لانے کی اجازت نہیں۔^{لکھیں} میکل ماہرین خوارک / غذائیت مریض کی طبی اور غذائی حالت سے متعلق تحریری اور زبانی ہدایت کی وضاحت کردیتے ہیں۔

آؤٹ پیشٹ نیوٹریشن کیئر کلینک

گیسٹر و کلینک (JHS Building)
فون: +021 34861055/6308
جھمرات
وقت: صبح 9:00 سے دوپہر 12:00 بجے
اسپرٹس ایڈری ہسپیلیٹیشن سینٹر
فون: +21 34861662
منگل
وقت: صبح 9:00 سے دوپہر 11:00 بجے

نذر علی و الجی بلڈنگ (NW2)
فون: +21 34865789/34865790
بیوی سے جمع
وقت: صبح 9:00 سے دوپہر 11:00 بجے
کشمبلنگ کلینک (CC4)
فون: +21 34861034
جمع
وقت: دوپہر 2:00 سے شام 4:00 بجے